

تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف

(Scope and Functions of Education)

علم انتظامیہ کا دائرہ کار (Scope of Education)

تعلیم ایک ایسا مسلسل عمل ہے جس کی مدد سے انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی، اخلاقی اور نفسیاتی نشوونما اور بالیدگی ممکن ہو جاتی ہے۔ مقاصد تعلیم طے کرنے کے لیے تعلیم ہماری مدد کرتی ہے۔ معاشرے کی ضروریات طالب علموں کی استعداد اور نفسیاتی تقاضوں کو محفوظ رکھتے ہوئے نصاب تعلیم مرتب کیا جاتا ہے۔ موثر تدریسی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے مقاصد تعلیم کا حصول ممکن ہو جاتا ہے اور طالب علم کی متوازن شخصیت تعمیر ہوتی ہے۔ تعلیم کا جدید اور واضح تصور یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس کی مدد سے طلبہ معاشرتی مطابقت حاصل کر کے انفرادی اور معاشرے کی اجتماعی نشوونما کا باعث بنتے ہیں۔

یہ بات طے ہے کہ اگر کسی فرد کو تعلیم میرمنہ آئے تو اس کی بے شمار صلاحیتیں دبی رہ جاتی ہیں یا منفی رُخ اختیار کر لیتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تعلیم سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور اس کی صلاحیتیں معاشرے کے لیے ثابت تبدیلی لاتی ہیں۔ معاشرہ انفراد سے ترتیب پاتا ہے۔ اپھے افادل کر اچھا معاشرہ بناتے ہیں۔

معاشرہ انسانوں کا مجموعہ ہے اور ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہے۔ اسی طرح دُنیا کے آغاز سے ہی ہر معاشرہ کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کے اعتقادات اس کے نظریات، اس کے مقاصد، اس کے رہنے سہنے کے طریقے، اس کا مذہب اور تصور کا نبات اور اس کی روایات زندہ رہیں۔ وہ اپنے ثقافتی ورثے اور تہذیب و تمدن کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقاصد صرف تعلیم کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔

تعلیم معاشرے کی ایک سوچی بھی کوشش ہوتی ہے جو معاشرہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا وجود ہمیشہ باقی رہے اور اس کے افراد معاشرہ کی تربیت اس انداز میں ہو کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنی معاشرتی زندگی میں مناسب تبدیلیاں پیدا کر سکیں۔ تعلیم ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعہ معاشرہ اپنا فکری، ثقافتی اور تہذیبی سرمایہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تعلیم وہ نظام ہے جس سے معاشرہ اپنے افراد کو اس قابل بنادیتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے طرز معاشرت کو عملاً اپنالیتی ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ تعلیم معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی تربیت اور نشوونما کا فریضہ انجام دیتی ہے تربیت کے سلسلہ میں خوشنگوار اور ثابت نتائج کے حصول کے لیے طلبہ کے رجحانات اور ان کی مستقبل کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ طلبہ کی ایسی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان میں ”علم انتظامیہ“ کا مضمون متعارف کرایا گیا ہے طلبہ نے اس مضمون میں بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہے اس باب میں طلبہ اور معاشرے کی ضروریات کے حوالے سے اس مضمون کے دائرہ کار اور تعلیم کے وظائف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے

گی۔ پچھلے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس میں فرد کی زندگی کے انفرادی اور معاشرے کے اجتماعی، سیاسی، نظریاتی اور معاشی پہلو شامل ہیں۔ تعلیم فردا اور معاشرہ، دونوں میں توازن قائم رکھتے ہوئے فرد کی جامع اور مکمل نشوونما کے موقع فراہم کرتی ہے اس میں رسمی اور غیررسمی تعلیم بھی شامل ہے۔

تعلیم جن موضوعات سے بحث کرتی ہے اور جن طریقوں سے تعلیم و قوع پذیر ہوتی ہے ان سب کے علم کو آج علم تعلیم یا ”علم انتظامی“ کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا مضمون جس میں انسانی فطرت کا اس پہلو سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ انسان کا معاشرتی ورثہ کیا ہے؟ اسے آئندہ نسلوں تک کیسے منتقل کیا جاتا ہے؟ معاشرے کے استحکام کے لیے اس کے شفافیتی ورثہ کی تغیری کیسے ممکن ہے؟ انسانی نفسیات کیا ہے؟ اور انسان کیسے مختلف عادات اختیار کرتا ہے؟ اس کے روحانیات میں کیسے تبدیلی لائی جائے تاکہ وہ بہترین عادات اور کردار کا مالک بن جائے اور معاشرے کی ترقی کا ضامن ہو۔

☆ علم انتظامی یا علم انتظامی سے مراد وہ مضمون ہے جس کی مدد سے ہم تعلیم کے مقاصد، نصاب، طریقہ ہائے تدریس، جائزہ، اسٹاد اور شاگرد کے تعلقات، مدرسہ اور معاشرہ کے تعلقات کے علاوہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو زیر بحث لاتے ہیں تاکہ درست راستہ اختیار کر کے فردا اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔

☆ علم انتظامی انفرادی، قومی اور بین الاقوامی روایوں سے متعلق معلومات کے حصول میں ہمارا معاون ہے۔ یہ تعلیم کی نظریاتی، نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی بنیادوں کو سمجھنا اور ان میں ثابت تبدیلیاں لانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔

☆ علم انتظامی باقاعدہ ایک سائنس ہے۔ جس کی مدد سے تعلیمی پالیسی تشكیل دی جاتی ہے۔ پالیسی ساز مقاصد تعلیم طے کر کے ان کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔

☆ تعلیمی اداروں اور تعلیمی معاملات کی نگرانی کرنے والے منتظمین اس مضمون کے مطالعے کے بغیر تعلیمی امور کے اصولوں کو نہیں سمجھ سکتے۔

☆ اس مضمون کے مطالعے کے بغیر ایک اسٹاد تدریسی طریقوں، طلبہ کے تعلیمی مسائل، تعلیمی نفسیات اور جائزے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا اور ایک کامیاب معلم نہیں بن سکتا۔

☆ علم انتظامی نو عمر ہونے کے باوجود ایک ایسا مضمون ہے جو بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کے طلبہ میں بھی یہ مضمون بہت مقبول ہے۔ میٹرک سے پی ایچ ڈی تک یہ مضمون متعارف ہو چکا ہے۔ جوں جوں تعلیم میں وسعت پیدا ہو رہی ہے اس مضمون کے بہت سے نئے اور مفید پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جن کو سامنے رکھنے بغیر تعلیمی معاملات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مقاصدِ تعلیم، تعلیمی پالیسی، تربیت اساتذہ، تدوین نصاب، تعلیمی انتظامیات، طلبہ اور اساتذہ کے معاملات ایسے موضوعات ہیں جن کا تعلق رہا راست اس مضمون سے ہے۔

پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں اس مضمون میں وہ موضوعات شامل کیے جائیں گے جو طالب علم کو بہترین مسلمان اور پاکستان کا محب وطن شہری بنانے میں مدد گارثا بات ہوں۔

علم انتظامی کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرٹ ہے یا سائنس؟ الہذا آرٹ اور سائنس کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سائنس تجربے اور مشاہدے پر یقین رکھتی ہے جو چیزیں انسانی تجربے یا مشاہدے میں نہیں آتیں وہ سائنس کا درج حاصل نہیں کر پاتیں۔

سائنسی سوچ اور طرز فکر کی بنیاد کا نتات کی ہر شے کا معروضی مطالعہ ہے۔ جس علم کے اجزاء میں باہم ربط نہیں وہ سائنس نہیں۔ علم انتظامی مفظم اور مربوط علم ہونے کی وجہ سے ایک سائنس ہے۔ تعلیمی انتظامیات، طریقہ ہائے تدریس، نصاب سازی اور جائزہ کے میدان میں ایسی تحقیقات ہو رہی ہیں جن کی پیاس کی جاسکتی ہے جو مفظم و مربوط ہیں اور سائنس کے معیار پر پوری اُترتی ہیں۔ اس لحاظ سے علم انتظامی ایک سائنس ہے۔

آرٹ ایسی مفظم سرگرمی کا نام ہے۔ جس میں فن کا راضی تخلیقی صلاحیتیں کام میں لاتا ہے اور حالات و واقعات میں ایسی تبدیلی لاتا ہے جس سے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ استاد بھی ایک ماہر فن کا رکی طرح لگے بندھے اصولوں کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ طلبہ کی نشوونما کے لیے حالات و واقعات میں اس طرح تصرف کرتا ہے جس سے تعلیمی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔

علم انتظامی کے دو رخ ہیں یہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی۔ علم انتظامی سائنس اس لیے ہے کہ اس میں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے تحقیق کی بنیاد پر تعلیمی مسائل کے حل کی کوشش کی جاتی ہے اور آرٹ اس لیے کہ ایک استاد فن کا رانہ انداز میں حالات و واقعات میں تصرف کر کے مطلوب تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

تعلیم کے وظائف (Functions of Education)

تعلیم تین اہم وظائف سر انجام دیتی ہے۔ ماہرین تعلیم کی نظر میں یہ وظائف فرد کی تکمیل اور معاشرے کی صحت مندوں کی لیے بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

- ۱- ثقافتی ورثتے کا تحفظ اور منتقلی
- ۲- شفافت کی تکمیل نو
- ۳- فرد کی ضروریات کی تکمیل

۱- ثقافتی ورثتے کا تحفظ اور منتقلی (Preservation and Transfer of Culture)

ہمارا نظریہ حیات، رہنمائی کے طریقے، ہمارا ادب، ہماری روایات، فن تعمیر، سوچ کے انداز، ہمارا بس، اٹھنا بیٹھنا، میل جوں کے آداب اور طریقے مل کر ہماری ثقافت اور تہذیبی ورثہ کہلاتے ہیں۔ اس میں زندگی کے وہ تمام طریقے شامل ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھے ہیں۔

دنیا کے تمام مہذب معاشرے اپنے آبا اجداد کے ورثہ کو عزیز رکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ اپنے بزرگوں کی غلط اور نامعقول روایات کو بھی اپنائے رکھنا باعث عزت خیال کرتے ہیں۔ البتہ بزرگوں کی اچھی اور مفید روایات کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ چیز معاشرے کی زندگی میں استحکام پیدا کرنی ہے اور تہذیبی ورثتے کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ تعلیم کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرے اور اسے آئندہ نسلوں کو منتقل بھی کرے۔

انسانی زندگی کے ابتدائی اور اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا تھا جو والدین کرتے تھے وہی کچھ بچ سیکھ جاتا تھا۔ یہ طریقہ غیر رسمی تھا۔ لڑکے عموماً وہ کام سیکھ لیتے تھے جن کے ذریعے ان کی خواراک، رہائش اور بس کا انتظام ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں عموماً مویر خانہ داری اور اولاد کی پرورش کے طریقے سیکھ جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ صدیوں چلتا رہا۔

بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عموماً والدین اور بزرگوں پر عائد ہوتی تھی۔ بعد میں قبیلے کے رہنماؤں اور سرداروں نے بچوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج کے دور میں ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کی ذمہ داری خاندان کے علاوہ سکول، کالج اور دوسرے تعلیمی

ادارے ادا کرتے ہیں۔ اس طرح تہذیب و ثقافت ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تہذیب و ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کے لیے تعلیم کے مقاصد، نصاب اور تدریسی طریقوں کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ میں وہ خیالات اور اعتقدات منتقل ہوں جو قوم چاہتی ہے اور ان کے ذہنوں میں وہ اقدار واضح کر دی جائیں جن کو معاشرہ اپنا ثقافتی و رشد خیال کرتا ہے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو ثقافت زوال پذیر ہو جاتی ہے اور ایسے معاشرے کا شخص اور اس کی پہچان ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہر قوم کا ثقافتی و رشد اس قدرو سعی ہو چکا ہے کہ رسی تعلیم کے بغیر اس کا تحفظ ممکن نہیں رہا۔ اس لیے ہر ملک زیر کشیر خرچ کر کے بہتر سے بہتر تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے، اگر ثقافتی و رشد کی منتقلی کے لیے اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم نہ کیے جاتے تو یہ کام ناممکن ہو جاتا اور تمام ترقی رک جاتی۔ اس کے نتیجے میں انسان پھر اپنی تمدنی تاریخ کے ابتدائی دور میں چلا جاتا۔

۲- ثقافت کی تشكیل نو (Reconstruction of Culture)

تعلیم کا صرف یہ کام نہیں کہ وہ تہذیبی و رشد کا تحفظ کرے اور اسے آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کرے بلکہ تعلیم کا انتہائی اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ معاشرتی زندگی کی تشكیل نو کرے ورنہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا تھا اور آج بھی ویسا ہی ہوتا جیسا آج سے ہزاروں سال پہلے تھا۔ یعنی انسان جنگلوں اور پیاروں کی غاروں میں زندگی بس کر رہا ہوتا اور آج کی پُر آسائش زندگی کا تصور بھی نہ کر سکتا۔ ثقافت ہمیشہ ارتقا پذیر رہتی ہے کبھی جامد نہیں ہوتی۔ ہر معاشرہ دوسرے معاشروں کی بہت سی باتوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ لباس، تراش خراش، میل جوں کے آداب، کھانے پینے کے آداب اور زندگی گزارنے کے دوسرے طریقوں میں ہر روزنئی تبدیلیاں آرہی ہیں یہاں تک کہ تعلیم کے تحت ثقافت کے نظریاتی پہلوؤں میں بھی تبدیلی آلتی رہتی ہے میشوں کی ایجاد سے زندگی گزارنے کے طریقوں میں ہو لوٹیں ہمیا ہونے پر ثقافت کے عملی پہلو میں تو بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ ریڈ یو، ٹی وی، ٹیلی فون اور دوسرے ذرائع ابلاغ کی بدولت دنیا بہت سمت گئی ہے۔ اس کے زیر اثر ہر ملک کی ثقافت کے نظری اور عملی دونوں پہلو متأثر ہو رہے ہیں۔ ایسے میں نئی نسل کو اپنی روایات، اقدار اور علوم و فنون کی صحیح خطوط پر تربیت دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ معاشرہ کی صحیح خطوط پر رہنمائی کا فریضہ صرف تعلیم سرانجام دیتی ہے۔

بے جا تقلید اور ثقافتی و رشی کا تحفظ کوئی قبل خبر بات نہیں، اگر بزرگوں کی تقلید اتنی ہی قبل ستائش ہوتی تو پیغمبر بھی اپنے آبا و اجداد کی راہ پر چلتے رہتے اور دنیا کوئی تعلیمات سے کبھی روشناس نہ کرواتے۔ آج کے دور میں ایک امریکی مفلک تعلیم جان ڈیوی کی نظر میں معاشرتی زندگی کی تشكیل نو ہی اصل میں تجربہ کی تیزی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اگر ثقافتی و رشی کی تشكیل نو نہ کرے تو معاشرہ جامد ہو کر رہ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تہذیب و ثقافت کی تشكیل نو کے ذریعے عربوں کی زندگی میں ایسا تعلیمی انقلاب برپا کر دیا کہ وہ قوم جو اس وقت کسی شمار میں نہ تھی۔ ایسی ابھری کہ وہ تعلیم، صنعت و حرف، سائنس اور معاشیات میں دنیا کی امام بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ بے شمار قبائل میں بٹے ہوئے ناخواندہ افراد کی یہ قوم بہت تھوڑے عرصہ میں دنیا کی عظیم ترین قوت بن کر ابھری جو ایک طرف حصہ معاشرت میں اپنا نامی نہیں رکھتی تھی۔ اور دوسری طرف سائنس، صنعت و حرف، معاشرت اور معیشت میں دنیا کی قیادت کر رہی تھی۔ اپنے اسلام کے ان کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کی چھاپ ہمارے نظام تعلیم پر اس قدر گہری ہو کہ نصاب سازی سے لے کر امتحانات کے انعقاد تک اور تدریس سے لے کر تمیز سیرت کے اہتمام تک طالب علم کی تعلیمی زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا نہ رہے جو اسلامی فکر کے رنگ

میں رنگا ہوانہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا یہ بہترین راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر ہم سامنے فی، معاشرتی اور معاشی علوم کے ہر شعبہ میں اقوامِ عالم کی امامت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اس بات کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تعلیمِ اسلامی نقطہ نظر سے موجودہ تہذیب و تبلیغ کا تقدیری جائزہ لے اور اس کی تعمیر نو کا فریضہ انجام دے۔ ثقافت کی اصل تشکیل نویبی ہے۔

۳۔ فرد کی ضروریات کی تکمیل (Fulfilment of Individual Needs)

آپ جانتے ہیں کہ بچے کے اولین اساتذہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو بچے کی تربیت اور کردار کی تعمیر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ بچہ جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو سکول جانا شروع کر دیتا ہے اور معاشرہ کی ثقافت کے تحفظ اور تشکیل نو کے لیے اساتذہ کے ہاتھوں اس کی رسمی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ بڑوں کی دُنیا میں داخل ہونے اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک بچے کو بہت سے مراحل سے گزرا پڑتا ہے۔ ان سب مراحل کی اپنی خصوصیات اور تقاضے ہیں۔ تعلیم کے وظائف میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ بچوں کی صحیح نشوونما کے لیے ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ ماہرین تعلیم بچے کی مناسب تربیت کے لیے درج ذیل ضروریات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔

☆ متعلم کی سب سے پہلی اور اہم ضرورت اس کی جسمانی اور رہنمی صحت ہے۔ اچھی صحت کے بغیر متعلم اپنا کوئی کام خوش اسلوبی سے نہیں کر سکتا۔ متوازن خواراک، مناسب ورزش، کھلیل کو اور صاف ہوا، جسمانی صحت کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔

معاشرے کو بچے کی ان ضروریات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ مستقبل کا معاشرہ صحت مند بنيادوں پر تشکیل پاسکے۔ ☆ متعلم کی یہ ضرورت ہے کہ تعلیم کے ساتھ اسے کھلیل کو اور دوسرے مشاغل میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے۔ بچوں کی نشوونما کے لیے کھلیل کو اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ اچھی خواراک۔ بچوں کی جسمانی، اخلاقی اور رہنمی نشوونما کے لیے کھلیل کو اور دوسرے مشاغل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ معاشرہ اور مدرسہ دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ طلبہ کو فارغ اوقات میں ثابت و تعمیری کھلیل کو اور صحت مند مشاغل کے موقع مہیا کریں۔ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بھی بچوں کی کھلیلوں میں دلچسپی لیتے تھے اور ان کے انعقاد کا اہتمام بھی کرتے تھے۔

☆ متعلم یہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے اور معاشرہ اس کا احترام کرے۔ بچے کی یہ خواہش فطری ہے کہ وہ اپنے خاندان، رشتہ داروں، دوستوں میں جانا اور پہچانا جائے۔ اس کا احترام کیا جائے۔ وہ دوستوں اور اردوگر کے لوگوں سے یہ موقع رکھتا ہے کہ وہ اسے اہمیت دیں اور اس سے تعاون کریں۔ معاشرے کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے وہ معاشرے سے تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں بچوں کو اچھے اخلاق، ہمدردی اور تعاون کی تربیت دی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آو۔ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے سے باہم احترام کرنے والا معاشرہ تشکیل پاسکتا ہے۔

☆ متعلم ذمہ دار شہری اور معاشرے کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے جانا چاہتا ہے کہ اس کے حقوق اور فرائض کیا ہیں؟ متعلم یہ جانا چاہتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس میں بطور ایک شہری کے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ متعلم یہ پسند کرتا ہے کہ اسے ایک اچھے طالب علم اور ایک اچھے شہری کے طور پر جانا جائے۔ اس سلسلہ میں اس پر جو ذمہ داریاں اور فرائض عائد ہوتے ہیں وہ انھیں ادا کرنا چاہتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اسے پسند کریں اور اس کے افعال کی تعریف کریں۔

☆ متعلم اپنے ماحول اور کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نظرت ایسی بنائی ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ یہی چیز معلومات اور علم حاصل کرنے کی بنیاد بنتی ہے۔ بچہ اپنے ارڈر کی اشیا زمین، سورج، چاند، ستارے حتیٰ کہ پوری کائنات اور خالق کائنات کے بارے میں جانتا چاہتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں اس کا مقام کیا ہے؟ یہ کیسے بنی ہے؟ نظام کائنات کیا ہے؟ اس کے اسرار و رُموز کیا ہیں؟ اور کیوں ہیں؟ وہ ایسے سوالات کے جوابات جانتا چاہتا ہے۔ بڑے ہونے پر یہی تحقیق و تئیش کی عادت نئی نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے۔

مندرجہ بالا ضروریات کی فراہمی کے لیے متعلم معاشرہ کا محتاج ہے۔ معاشرہ اس کی ضروریات کی فراہمی کے بعد متعلم پر کچھ معاشرتی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اور یہ مقصود صرف تعلیم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ تعلیم کے ذریعہ افراد کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کی ضروریات پوری ہوں اور وہ اس کے بدل میں معاشرہ کی ثافت کو اپانائیں، اچھے شہری ثابت ہوں اور مستقبل میں زندگی کے مختلف اداروں کو کامیابی سے چلانیں۔

ثقافتی اتحاد اور قومی سمجھنی کے لیے قومی تعلیم بنا دی کردار ادا کرتی ہے اور تعلیم کو یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ ناخواندگی بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ملکی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم یہ مسئلہ حل کرے۔ جمہوریت کے بارے میں تمام مفکرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جمہوریت ناخواندہ اور نیم خواندہ معاشرے میں کام نہیں دیتی۔ اسلام نے تمام مسلمانوں پر تعلیم کا حصہ فرض قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں کی اکثریت ناخواندہ ہے۔ ناخواندگی کے خاتمے، جمہوریت کو کامیابی سے چلانے اور ملکی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تعلیم اپنا صحیح کردار ادا کرے۔

مشقی سوالات

- 1 علم اعلیٰ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ نیز اس کا دائرہ کاریابیں کریں۔
- 2 ثقافتی ورثے کے تحفظ اور منتقلی سے کیا مراد ہے؟
- 3 تعلیم فرد کی نشوونما کرتی ہے۔ مثالوں سے وضاحت کریں۔
- 4 ”تعلیم ثافت کی تشكیل نوکرتی ہے“۔ اس کی وضاحت کریں۔
- 5 تعلیم بچ کی نشوونما میں مدد کرتی ہے۔ مثالوں کی مدد سے وضاحت کریں۔
- 6 فرد کی ضروریات کی تجھیں سے آئندہ کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
- 7 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔
- i علم اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کی پانچ وجوہات لکھیں۔
- ii کسی قوم کے ثقافتی ورثے سے کیا مراد ہے؟
- iii تعلیم کا ملک کی تہذیب و ثافت سے کیا تعلق ہے؟ بیان کریں۔
- iv تہذیب و ثافت کی تشكیل نو کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔
- v ثقافتی ورثے کی بے جا تقلید کے پانچ نقصانات لکھیں۔
- vi فرد کی پانچ ضروریات کے نام لکھیں۔

- vii- انسانی زندگی کے ابتدائی دور میں انسان اپنی نسل کی تربیت کیسے کرتا تھا؟

viii- ”تعلیم اگر شفقتی و رشیت کی تکمیل نونہ کرے تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا“ سے کیا مراد ہے۔

ix- تعلیم کے وظائف کون سے ہیں؟

-8 درج ذیل بیانات میں صحیح ہونے کی صورت میں ”ص“ کے گرد اور غلط ہونے کی صورت میں ”غ“ کے گرد امراء لگائیں۔

i- پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ ص/غ

ii- علم التعلیم کا مضمون میٹرک سے پی اچ ڈی تک متعارف ہو چکا ہے۔ ص/غ

iii- سائنس اور فن ایک ہی چیز کے دونام ہیں۔ ص/غ

iv- تہذیبی و رشیت کی منتقلی صرف تعلیمی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ص/غ

v- ثقافتی و رشیت کا تحفظ رسمی تعلیم کے بغیر ممکن ہے۔ ص/غ

vi- بچے کے اولین اساتذہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ ص/غ

vii- ثقافت کے عملی پہلو میں بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ ص/غ

viii- ثقافت ہمیشہ تغیر پذیر ہوتی ہے کبھی جامد نہیں ہوتی۔ ص/غ

ix- رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے کھلیوں میں دلچسپی لیتے تھے۔ ص/غ

x- تعلیم کی ضروریات کی فرمائی کی ذمہ داری معاشرہ پر عائد ہوتی ہے۔ ص/غ

9- مناسب الفاظ سے خالی جگہ پُر کریں۔

i- فرد کی جامع اور مکمل نشوونما میں مدد کرتی ہے اس میں رسمی اور غیر رسمی تعلیم بھی شامل ہے۔

ii- تعلیمی اداروں کی نگرانی کرنے والے علم التعلیم کے مطالعے کے بغیر..... امور کو نہیں سمجھ سکتے۔

iii- مقاصد تعلیم، تعلیمی پالیسی، تربیت اساتذہ، تدوین نصاب، طلبہ اور اساتذہ کے معاملات ایسے موضوعات ہیں جن کا تعلق براہ راست..... سے ہے۔

iv- علم التعلیم کے دو رخ ہیں یہ سائنس بھی ہے اور..... بھی۔

v- سائنسی طرز فکر کی بنیاد ہر شے کا معروضی مطالعہ ہے جس علم کے اجزا میں باہم ربط نہ ہو وہ..... نہیں۔

10- درج ذیل میں ہر سوال کے چار جوابات دیے گئے ہیں صحیح جواب کے گرد امراء لگائیں۔

-i- تعلیم کا سب سے اہم فریضہ ہے۔

(ا) تعلیم و تدریس	تدوین مقاصد تعلیم
(ب)	(د) معاشری زندگی کی تکمیل نو
(ج) اچھے اجتماعی متناسج	

-ii- تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (ج) معلومات کا حصول | (ب) ذاتی تسلیم |
| (د) ملازمت کا حصول | (ج) طلبہ کی تربیت |

-iii- پاکستان کے لوگوں کی اکثریت ہے۔

- | | |
|-----------------|----------------|
| (ج) ناخواندہ | (ب) خواندہ |
| (د) تربیت یافتہ | (ج) نیم خواندہ |

-iv- جو چیز تجربے اور مشاہدے میں آئے کھلاتی ہے:

- | | |
|---------|-----------|
| (ج) علم | (ب) سائنس |
| (د) آرٹ | (ج) مذہب |

-v- تعلیم کے اہم وظائف کی تعداد ہے۔

- | | |
|---------|----------|
| (ج) چار | (ب) پانچ |
| (د) چھ | (ج) تین |

11- ذیل میں دیے گئے کالم (j) کے اجزاء اس طرح ملائیں کہ درست جواب حاصل ہو جائے۔

کالم (ب)	کالم (j)
ٹھافت کی تشكیل نوکرتی ہے۔	i- جان ڈیوی نے کہا
جبھوریت۔	ii- معاشرہ کے قیام کے لیے ایک مشترک
ٹھافت کو پانائے۔	iii- سائنس کا تعلق صرف
معاشرتی زندگی کی تشكیل نہیں اصل میں تجربہ کی تنظیم نہ ہے۔	iv- قومی یک جہتی کے لیے
مادی پہلو سے ہے۔	v- معاشرہ تو قع رکھتا ہے کرنی نسل اس کی
ٹھافت کا ایک ہونا ضروری ہے۔	vi- تعلیم کا ایک انتہائی اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ
ٹھافت کا ہونا ضروری ہے۔	vii- ناخواندہ اور نیم خواندہ معاشرے میں کامنہیں دیتی